

BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR
AT CAMP COURT ABBOTTABAD

SERVICE APPEAL NO. 1172/2017

Date of institution ... 25.09.2017

Date of judgment ... 08.07.2019

Haroon Khan son of Muhammad Younas Khan, Canal Patwari, Sub-Divisional Office, Sub-Division, Haripur,
R/o Village Sara-e-Saleh, Tehsil & District, Haripur.

... (Appellant)

VERSUS

1. Secretary Irrigation Department, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.
2. Chief Engineer (North), Irrigation Department, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.
3. Executive Engineer, Hazara Irrigation Division, Abbottabad.
4. Superintendent Engineer Irrigation Swabi Circle, Swabi.

... (Respondents)

APPEAL UNDER SECTION-4 OF THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL ACT, 1974, AGAINST THE IMPUGNED ORDER NO. 1199/18-E DATED 09.05.2017 ISSUED BY RESPONDENT NO. 3, WHEREBY, WITHOUT CONDUCTING REGULAR INQUIRY, PERSONAL HEARING OR SHOW-CAUSE NOTICE, AGAINST THE LAW, RULE AND FACTS, APPELLANT WAS DEMOTED FROM SCALE NO. 7 TO SCALE NO. 1 (APPRENTICES) PATWARI WITH OBSERVATION FOR ONE YEAR IN FUTURE.

Mr. Abdul Aziz Khan Tanoli, Advocate.

.. For appellant.

Mr. Muhammad Bilal Khan, Deputy District Attorney

.. For respondents.

Mr. MUHAMMAD AMIN KHAN KUNDI

.. MEMBER (JUDICIAL)

MR. HUSSAIN SHAH

.. MEMBER (EXECUTIVE)

JUDGMENT

MUHAMMAD AMIN KHAN KUNDI, MEMBER: - Counsel for the appellant and Mr. Muhammad Bilal Khan, Deputy District Attorney for the respondents present. Arguments heard and record perused.

2. Brief facts of the case as per present service appeal are that the appellant was serving as Canal Patwari in Irrigation Department. He was imposed major

penalty of demotion from BPS-7 to BPS-1 with observation for one year in future vide order dated 09.05.2017 on the allegation of poor performance. The appellant filed departmental appeal on 24.05.2017 but the same was not responded hence, the present service appeal on 25.09.2017.

3. Respondents were summoned who contested the appeal by filing of written reply/comments.

4. Learned counsel for the appellant contended that the appellant was serving as Canal Patwari in Irrigation Department. It was further contended that the appellant was imposed major penalty of demotion from BPS-7 to BPS-1 with observation for one year in future vide order dated 09.05.2017 on the allegation of poor performance. It was further contended that neither any charge sheet, statement of allegation was served upon the appellant nor proper inquiry was conducted nor the appellant was associated in the inquiry proceeding nor any final show-cause notice alongwith copy of inquiry report was handed over to the appellant therefore, the appellant was condemned unheard which has rendered the whole proceeding illegal and liable to be set-aside and prayed for acceptance of appeal.

5. On the other hand, learned Deputy District Attorney for the respondents opposed the contention of learned counsel for the appellant and contended that the appellant was imposed major penalty of demotion from BPS-7 to BPS-1 with observation for one year in future on the allegation of poor performance. It was further contended that all the codal formalities were fulfilled before imposing the aforesaid penalty therefore, the competent authority has rightly imposed the aforesaid penalty and prayed for dismissal of appeal.

6. Perusal of the record reveals that neither proper charge sheet, statement of allegation was framed or served upon the appellant nor proper inquiry in the mode and manner prescribed under the Khyber Pakhtunkhwa Government


M. Amin
8.7.2019

Servants (Efficiency & Discipline) Rules, 2011 was conducted nor the appellant was associated with the inquiry proceeding nor any show-cause notice alongwith copy of inquiry report was handed over to the appellant before imposing the major penalty of demotion from BPS-7 to BPS-1 therefore, the appellant was condemned unheard which has rendered the whole proceeding illegal and liable to be set-aside. As such, we partially accept the appeal and set-aside the impugned order. However, the respondent-department is at liberty to conduct de-novo inquiry within a period of 90 days in the mode and manner prescribed under Government Servants (Efficiency & Discipline) Rules, 2011 from the date of receipt of copy of this judgment. Parties are left to bear their own costs. File be consigned to the record room.

ANNOUNCED
08.07.2019



(HUSSAIN SHAH)
MEMBER
CAMP COURT ABBOTTABAD



(MUHAMMAD AMIN KHAN KUNDI)
MEMBER
CAMP COURT ABBOTTABAD

20.05.2019

Junior to counsel for the appellant and Mr. Muhammad Bilal, DDA alongwith Mr. Jawad, Zilladar for respondents present. Junior to counsel for the appellant seeks adjournment as his senior counsel is not available today. Adjourned. Case to come up for arguments on 08.07.2019 before D.B at camp court Abbottabad.



(Ahmad Hassan)
Member


(M. Amin Khan Kundi)
Member
Camp Court A/Abad


08.07.2019

Counsel for the appellant and Mr. Muhammad Bilal Khan, Deputy District Attorney for the respondents present. Arguments heard and record perused.


Vide our detailed judgment of today consisting of three pages placed on file, we partially accept the appeal and set-aside the impugned order. However, the respondent-department is at liberty to conduct de-novo inquiry within a period of 90 days in the mode and manner prescribed under Government Servants (Efficiency & Discipline) Rules, 2011 from the date of receipt of copy of this judgment. Parties are left to bear their own costs. File be consigned to the record room.

ANNOUNCED

08.07.2019


(Hussain Shah)
Member

Camp Court Abbottabad


(Muhammad Amin Khan Kundi)
Member
Camp Court Abbottabad

15.10.2018

Appellant in person present. Mr. Muhammad Jawad, Zilladar alongwith Mr. Usman Ghani, District Attorney for the respondents present. Written reply submitted. Adjourned. To come up for rejoinder and arguments on 15.1.2019 before D.B at camp court, Abbottabad.



Member
Camp Court, A/Abad

15.01.2019

Learned counsel for the appellant and Mr. Muhammad Bilal learned Deputy District Attorney alongwith Muhammad Jawad Zilladar present. Learned counsel for the appellant seeks adjournment. Adjourn. To come up for arguments on 18.03.2019 before S.B at camp court Abbottabad.



Member



Member

Camp Court Abbottabad

18.03.2019

Junior to counsel for the appellant and Mr. Muhammad Bilal learned Deputy District Attorney present. Junior to counsel for the appellant seeks adjournment as senior counsel for the appellant is not in attendance. Adjourn. To come up for arguments on 20.05.2019 before D.B at Camp Court Abbottabad.




Member



Member
Camp Court A/Abad.


19.04.2018

Appellant in person and Mr. Usman Ghani, District Attorney alongwith Raham Zeb, Deputy Collector for the respondents present. Representative of the respondents seeks adjournment. Granted. To come up for written reply on 27.06.2018 before the S.B at camp court, Abbottabad.


Chairman
Camp court, A/Abad

27.06.2018

Appellant Haroon Khan in person present. Mr. Jawad Zilladar alongwith Mr. Usman Ghani, District Attorney for the respondents present. The above named representative of the respondents made a request for adjournment. Granted but as a last chance. To come up for written reply/comments on 27.08.2018 before S.Bat camp court, Abbottabad.


Chairman
Camp court, A/Abad

27.08.2018

Appellant in person and Jawad khan Zila Dar for the respondents present . Due to summer vacations, the case is adjourned .To come up for the same on 15.10.2018 at camp court Abbottabad.


Reader

19.1.2018

Counsel for the appellant present. Preliminary arguments heard. The learned counsel for the appellant argued that the appellant was demoted from BPS-7 to 1 on 09.05.2017 against which he filed departmental appeal on 25.5.2017 which was not responded to and thereafter he filed the present service appeal on 23.09.2017.

The grounds taken by the learned counsel for the appellant was that the appellant was demoted without any enquiry and without any show cause notice and personal hearing.

Points raised need consideration. The present is appeal is admitted to regular hearing. The appellant is directed to deposit security and process fee within 10 days. Thereafter, notices be issued to the respondents. To come up for written reply/comments on 20.03.2018 before S.B at camp court, Abbottabad.

Appellant Deposited
Security & Process Fee

Chairman
Camp court, A/Abad



20.03.2018

Counsel for the appellant and Mr. Usman Ghani, District Attorney alongwith Lutfullah, Assistant (Litigation) for the respondents present. Written reply not submitted. To come up for written reply on 19.04.2018 before the D.B at camp court, Abbottabad.

Chairman
Camp court, A/Abad

Form-A
FORM OF ORDERSHEET

Court of _____
Case No. 1172/2017

S.No.	Date of order proceedings	Order or other proceedings with signature of judge
1	2	3
1	20/10/2017	<p>The appeal of Mr. Haroon Khan received today by post through Mr. Abdul Aziz Khan Tanoli Advocate, may be entered in the Institution Register and put up to Worthy Chairman for proper order please.</p> <p style="text-align: right;"> REGISTRAR 20/10/17</p>
2-	24-10-2017	<p>This case is entrusted to Touring S. Bench at A.Abad for preliminary hearing to be put up there on <u>19-01-2018</u></p> <p style="text-align: right;"> CHAIRMAN</p>

The appeal of Mr. Haroon Khan son of Muhammad Younas Khan cannal Patwari Sub Divisional Office Haripur received to-day i.e. on 25.9.2017 is returned to the counsel for the appellant with the direction to submit one more copy/set of the appeal along with annexures i.e. complete in all respect within 15 days.

No. 2415 /S.T,

Dt. 26/9 /2017.

[Signature]
Registrar
Khyber Pakhtunkhwa
Service Tribunal
Peshawar

26/9/17

Mr. Abdul Aziz Khan Tanoli Adv.
High Court Abbottabad.

Sir

objection Remove and Rea Submitted
Please. *[Signature]*

**BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA,
SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR**

Service Appeal No. 1172 /2017

Haroon Khan son of Muhammad Younas Khan, Canal Patwari, Sub-Divisional Office, Sub-Division, Haripur, resident of Village Sara-e-Saleh, Tehsil & District, Haripur.

...APPELLANT

VERSUS

Secretary Irrigation Department, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar & others.

...RESPONDENTS

SERVICE APPEAL

INDEX


<i>S. #</i>	<i>Description</i>	<i>Page No.</i>	<i>Annexure</i>
1.	Service appeal alongwith affidavit	1 to 6	
2.	Copy of order dated 09/05/2017	-7-	"A"
3.	Copy of Notification	8 to 9	"B"
4.	Copy of departmental appeal and postal receipt XXXXXXXXXX	10 to 12	"C"
5.	Wakalatnama	-13-	



...APPELLANT

Through

Dated: 21-9- /2017



(ABDUL AZIZ KHAN TANOLI)
Advocate High Court, Abbottabad

**BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA,
SERVICE TRIBUNAL PESHAWAR**

Service Appeal No. 1172 /2017

Haroon Khan son of Muhammad Younas Khan, Canal Patwari, Sub-Divisional Office, Sub-Division, Haripur, resident of Village Sara-e-Saleh, Tehsil & District, Haripur.

...**APPELLANT** Khyber Pakhtunkhwa
Service Tribunal

Diary No. 1094

Dated 25/9/2017

VERSUS

1. Secretary Irrigation Department, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.
2. Chief Engineer (North), Irrigation Department, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.
3. Executive Engineer, Hazara Irrigation Division, Abbottabad.
4. Superintendent Engineer Irrigation Swabi Circle, Swabi.

...**RESPONDENTS**

Filed to-day

Registrar

25/9/17

**Re-submitted to -day
and filed.**

Registrar

20/10/17

APPEAL UNDER SECTION 4 OF KPK SERVICE TRIBUNAL ACT, 1974, AGAINST THE IMPUGNED ORDER NO.1199/18-E DATED 09/05/2017 ISSUED BY RESPONDENTS NO.3, WHEREBY, WITHOUT CONDUCTED REGULAR INQUIRY, PERSONAL HEARING OR SHOW CAUSE NOTICE, AGAINST

THE LAW, RULE AND FACTS, APPELLANT WAS DEMOTED FROM SCALE NO.7 TO SCALE NO.1 (APPRENTICES) PATWARI WITH OBSERVATION FOR ONE YEAR IN FUTURE.

PRAYER: ON ACCEPTANCE OF THIS APPEAL, IMPUGNED ORDER DATED 09/05/2017 MAY VERY KINDLY BE SET ASIDE AND THE RESPONDENTS MAY PLEASE BE DIRECTED TO RESTORE THE ORIGINAL SCALE OF THE APPELLANT SCALE NO.7 WITH ALL BACK BENEFITS. ANY OTHER REMEDY WHICH THIS HONOURABLE TRIBUNAL DEEMS FIT AND PROPER MAY ALSO BE AWARDED IN FAVOUR OF APPELLANT.

Respectfully Sheweth:-

Brief facts giving rise to the present appeal are as under:-

1. That appellant is the employee of respondents department and served the respondents department as Canal Patwari for quite considerable time quite efficiently and upto the entire satisfaction of his superior.

2. That appellant when received the charge of Dam Khairbara Entry of irrigation recorded in Khasra according to the fact which was available in the spot.
3. That the entry of irrigation in Khasra which recorded the appellant in Khasra confirmed by superior officer.
4. That the respondent No.3 without conducted regular inquiry, charge sheet, show cause notice or personal hearing of the appellant with malafide and against the law appellant was demoted from Scale No.7 to Scale No.1 vide order No.1199/18-E dated 09/05/2017. Copy of order dated 09/05/2017 is attached as Annexure "A".
5. That the major penalty of Demolition passed by the respondents against the appellant from Scale No.7 to Scale No.1 is not covered by law as the finance department of KPK vide Notification NO.KC/FD/SO(FR)7-20/2015-16 dated 26/05/2016 Scale No.1 and 2 of the basic pay scale stand abolished. Thus the penalty is not sustainable

under the law. Copy of Notification is annexed as Annexure "B".

6. That the appellant after obtaining copy of impugned order filed departmental appeal on 25/05/2017. Copy of departmental appeal and postal receipt [REDACTED] is attached as Annexure "C".
7. That respondents/ department did not give any reply of the departmental appeal of the appellant, and statutory period is already been completed, hence, this appeal, inter-alia, on the following grounds:-

GROUND:-

- a) That the impugned order was passed by respondents against the appellant with malafide and against the law, without conducted regularly inquiry, charge sheet, show cause notice or personal hearing of the appellant, thus not sustainable under the law and liable to be set aside.

- b) That the impugned order which was passed against the appellant and on the basis of penalty was imposed is totally illegal, against the law, without jurisdiction, coram-non-judice and not sustainable under the law and liable to be set aside.
- c) That the impugned order was passed against the appellant in violation of Article 4 and 25 of the Constitution of Pakistan, 1973.
- d) That the impugned order was passed in violation of fundamental rights as well as mandatory provisions of law and natural justice. Thus not sustainable under the law and liable to be set aside.
- e) That no other efficacious, speedy and adequate remedy is available to appellant except the instant appeal.
- f) That the other points shall be urged at the time of arguments.


It is, therefore, respectfully prayed that on acceptance of this appeal, impugned order dated 09/05/2017 may very kindly be set aside and the respondents may please be directed to restore the original scale of the appellant scale No.7 with all back benefits. Any other remedy which this Honourable Tribunal deems fit and proper may also be awarded in favour of appellant.



...APPELLANT

Through

Dated: 21-9- /2017



(ABDUL AZIZ KHAN TANOLI)
Advocate High Court, Abbottabad

VERIFICATION:-

Verified on oath that the contents of foregoing appeal are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therein from this Honourable Court.



...APPELLANT



(7)
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER

HAZARA IRRIGATION DIVISION ABBOTTABAD
Phone No 0992-9310246 Fax No (0992-9310246)

Annex 'A'

No 1199 / 18

Date ATD 09/05/2017


OFFICE ORDER

Whereas charges of poor performance in Govt: duty and decrease in area assessed was leveled upon Mr. Haroon Khan and Naiz Ahmed Patwaries attached to Haripur Sub Division during visit of Canal Collector North wing dated 01.09.2016.

Whereas the enquiry was ordered by the worthy Chief Engineer North Wing Peshawar and Mr. Roohul Mohsin Technical Officer, Office of the Chief Engineer Peshawar and Mr. Raham Zeb Deputy Collector Hazara Irrigation Division Abbottabad to probe the matter and submit their findings for further necessary action.. Both the enquiry officers visited the site and submitted their report direct to the Chief Engineer North wing Peshawar. Wherein the Dam Khairbara was constructed with the total cost of Rs.284.840 Millions for total CCA of 1600 Acre, while the Patwari concerned assessed only 8 and 7 Acres per Crop, which was very meager figures.

The enquiry Officers submitted their report alongwith other factors / reasons, the actual irrigated area was witnessed to be quite larger as compared to the assessment made by the Patwaries in the first 3 years. Whereas the enquiry officers proved the charges leveled upon the accused. Thereby rendered themselves for penalty.

Now being competent authority, penalty has been imposed on both the accused Mr. Haroon Khan S/o Muhammad Younas of village Sarai Saleh Distt: Haripur, designation Canal Patwari BPS-07 and is being demoted from BPS-07 to BPS-1 (apprentices) Patwari with observation for one year in future. And Mr. Naiz Ahmed S/o Umar Khitab village Nokot Distt: Mansehra designation Canal Patwari BPS-07 and is being demoted from BPS-07 to BPS-05 with observation for 6 months in future alongwith (Full attendance in HVC office Abbottabad) in the best public interest.


EXECUTIVE ENGINEER

Copy to the:-

1. Chief Engineer (North) Irrigation Department Peshawar.
2. Superintending Engineer Swabi Irrigation Circle Swabi.
3. District Accounts Officer Abbottabad.
4. Sub Divisional Officer Irrigation Sub Division Mansehra, Haripur for information.
5. Deputy Collector HID Abbottabad.
6. All Zilladars in HID Abbottabad.
7. DAO/HC/EC (Local) for information & n/action.
8. Officials / accused concerned.
9. HVC (Local) with the direction to observe his full attendance and report on daily basis.

EXECUTIVE ENGINEER

Annex B,

(8)



GOVERNMENT OF KHYBER PAKHTUNKHWA

FINANCE DEPARTMENT

(REGULATION WING)

NO. KC/FD/SO(FR)/7-20/2015-16

Dated Peshawar, the 23-02-2016

To,

The Accounts Officer (HAD)
Accountant General Office
Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.

Subject: UPGRADATION OF CLASS IV AND SANCTION OF SPECIAL COMPENSATORY ALLOWANCE 2015-16

Dear Sir,

I am directed to refer to your letter No. H-24/Promotion / Fixation 2015-16/3444 dated 10-11-2015 on the subject noted above and to state that reply of Finance Department in annotative form is as under.

attested

Hu
m

S. No	AG Observations	Finance Department Reply
1	It is stated that Para(a) of the above cited Notification read with para-iii of your office memo No. KC/FD/SO(FR)7-20/2015 dated 17-08-2015 all posts in BPS-01 to 05 stand upgraded by two stages. Hence, scale 01 and 02 of the Basic Pay Scale stand abolished.	Fresh appointment of BS-1 and BS-2 shall be made in BS-03 and BS-04 respectively. And all the Administrative Departments will amend their service rules in prescribed manner.
2	Under para-ii of your office letter No. KC/FD/SO(FR)7-20/2015 dated 17-08-2015 premature increment is allowed to all upgraded employees. However, this office is of the view that premature increment on upgradation may be allowed on the analogy of rule 10(i) of the Pay Revision Rules 1978 i.e. where increase in the pay on fixation to the next stage of the higher post gives a pay increase equal to or less than a full increment of the pay scale of the higher post.	Correct
3	Para(c) of the Notification provides that Special Compensatory Allowance will be granted to all the provincial employees in BPs-16 and the amount of Special Compensatory Allowance will be equal to the difference of pay and allowance of notional upgradation from BS-16 to BS-17 and will be applicable w.e.f. 01-07-2015. Furthermore on 01-07-2015 due to revision of Pay & Allowances almost all the allowances stand frozen at the level of 30-06-2015. As a	The Government will reconsider para-4 of Finance Department notification dated 30-06-2015 and when notified the same could be communicated to Accountant General Office.

308

	consequence of that the allowances of an upgraded officer will remain unchanged & rate of Special Compensatory Allowance will be equal to the difference of basic pay and House Rent Allowance only.	
4	Regular employees on deputation in developmental projects are entitled for Project Allowance and Deputation Allowance. Hence, being allowances difference of the same on the aforementioned upgradation should also be considered for the calculation of Special Compensatory Allowance.	Not entitled for Special Compensatory Allowance as mentioned in Finance Department notification of para-c. Hence not covered for the said allowance.
5	Exercise of option for Special Compensatory Allowance under Para-(C) of the notification is not clear as option is meant for fixation of Basic Pay and not allowances. Furthermore, exercise of option in the instant case will deprive Civil Servants from the payment of Special Compensatory Allowance for 05 months. The same may therefore, be withdrawn or guidance may be solicited with proper example.	The Government will reconsider para-4 of Finance Department notification dated 30-06-2015 and when notified the same could be communicated to Accountant General Office.
6	Mr. B. Ward orderly was awarded one scale move Upgradation Committee from BS-02 to BS-03 w.e.f. 01-07-2007 and now his pay will be fixed in BS-05 by awarding two scale upgradation, if we consider the New Pay Scale words instead of upgradation of post alongwith incumbents then the new incumbent will be appointed in BPS-05 or otherwise?	Present incumbents will be upgraded from BS-03 to BS-04 on 01-07-2015 and new appointments will also be made in the BS-04
7	The various categories of existing teacher such as PST, CT, DM, PET upgraded conditionally (one time) on the basis of higher qualification / length of service w.e.f. 01-10-2007 vide your office Notification No. Finance Department/SO(FR)/10-22/2010 dated 16-01-2008. Later on the posts of the above teachers have been upgraded in general w.e.f. 01-07-2012 vide Finance Department letter No. SO(FR)Finance Department/10-22/E/2010 dated 16-07-2012. It needs clarification whether one step upgradation will be admissible to those teachers who were allowed one step upgradation from 01-10-2007 on the basis of higher qualification / length of service or otherwise, as they have not been upgraded in last five years.	The case of those teachers who were not upgraded in 2012 or onward vide Finance Department letter No. SO(FR)/Finance Department/10-22(E)/2010 dated 16-07-2012 and E&SE Department Notification No. SO(B&A)1-18/E&SE/2012 dated 11-07-2012. After confirmation from the payroll of the remaining PST, CT, DM, PET, AT, TT, Qari teachers who are appointed before 01-07-2010, are also entitle for one step upgradation vide Finance Department notification dated 30-06-2015
8	Similarly Arabic Teacher and Theology Teacher were allowed revised pay scales BPS-15 and	As above in para-7.

attested
Hsu

~~Handwritten mark~~

Annex C

بخدمت جناب سپرینٹنڈنگ انجینئر صاحب اریگیشن سرکل صوابی۔

بوساطت: ایکسین صاحب ہزارہ اریگیشن ڈویژن ایبٹ آباد

10

محکمہ ایبل برخلاف آرڈر نمبری Xen Dated 09/05/2017 1199/18E صاحب ہزارہ اریگیشن ڈویژن ایبٹ آباد
حکم نمبری بالا کے تحت اپیلانٹ کو بغیر قانونی و ضروری تقاضے پورے کئے سکیں نمبر 7 سے سکیں نمبر 1 میں Demote کر دیا گیا
اور ایک سال Observation کی سزا دی۔

استدعا بمظہوری اپیل ہذا آرڈر نمبر بالا برخلاف اپیلانٹ غلط غیر قانونی اور خلاف انصاف اور قابل منسوخی ہے اور اپیلانٹ سکیں نمبر 7 پر
سے جملہ فوائد ملازمت پر بحال ہونے کا حقدار ہے۔

جناب عالی!

اپیل ذیل عرض ہے۔

- (1) یہ کہ سائل محکمہ ہذا میں بحیثیت پٹواری اپنے فرائض منصبی سرانجام دے رہا ہے۔ سائل کا سروس ریکارڈ صاف و شفاف ہے۔
- (2) یہ کہ محکمہ چیف انجینئر صاحب (نارتھ) پشاور پر اپیلانٹ اور نیاز احمد پٹواری کے خلاف محکمہ انکوآری کا حکم صادر کیا۔ لیکن انکوآری میں ضروری قانونی تقاضوں کو پامال کیا گیا اور سائل Defance کا موقع بالکل نہیں دیا گیا اور سائل کو سزا کا آرڈر دینے سے قبل نہ ہی چارج شیٹ جاری کی گئی نہ ہی کوئی شوکار نوٹس جاری کیا گیا۔ بدیں وجہ آرڈر مذکور خلاف قانون ہے۔
- (3) یہ کہ سائل اپیلانٹ کے خلاف جو انکوآری مقرر کی گئی وہ بھی بمطابق قانون نہ تھی کیونکہ انکوآری میں جو ضروری گواہان (علاقہ خیر باڑہ کے زمینداران) تھے ان کے بیان نہیں لیے گئے نہ ہی کسی گواہ پر اپیلانٹ کو جرح کا موقع دیا گیا نہ ہی کسی گواہ کا بیان اپیلانٹ کی موجودگی میں قلمبند کیا گیا۔

(4) یہ کہ سائل/اپیلانٹ نے جب سے موضع خیر باڑہ کا چارج لیا تو اپیلانٹ خسروہ میں وہی اندراج کرتا رہا جتنی آپاشی ہوتی تھی۔ سائل/اپیلانٹ نے کبھی بھی خلاف حقائق کوئی رپورٹ نہ دی اور سائل اپیلانٹ کی رپورٹ کو افسران بالا نے کنفرم کیا اگر سائل/اپیلانٹ کے خلاف کارروائی کی گئی تو افسران بالا کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی گئی محض اپیلانٹ کو قربانی کا بکرا بنانا انصاف و قانون کے فطری اصولوں کے خلاف ہے اور آئین کے آرٹیکل 4 اور 25 کی خلاف ورزی کی گئی ہے بدیں وجہ نا قابل بحالی ہے اور قابل منسوخی ہے۔

(5) یہ کہ سائل/اپیلانٹ کو دی گئی سزا نہ تو سول سرونٹ ایکٹ 1973 کے تحت دی گئی ہے اور نہ ہی 2012 ایکٹ کے تحت بدیں وجہ سائل/اپیلانٹ کو سزا خلاف قانون دی گئی جو نا قابل بحالی ہے اور قابل منسوخی ہے۔

(6) یہ کہ سائل/اپیلانٹ کے خلاف یکطرفہ طور پر محض جانبداری سے انکوآری کی گئی جس میں اپیلانٹ کو صفائی پیش کرنے کا موقع نہ دیا گیا اور نہ ہی Impugned آرڈر پاس کرنے سے قبل کوئی فائل شوکار نوٹس جاری کیا گیا اور نہ ہی اپیلانٹ کی پرسنل Hearing کی گئی بدیں وجہ آرڈر غلط، خلاف قانون، خلاف انصاف و واقعات ہونے کی بناء پر قابل منسوخی ہے اور نا قابل بحالی ہے۔

7) یہ کہ پٹواری ہر فصل کا اندراج کر کے خسرہ جات کھتونی ہر 6 ماہ بعد دفتر ضلعداراری جمع کراتا ہے۔ دفتر ضلعداراری والے نقشہ جات تیار کر کے دفتر ڈپٹی کلٹر صاحب اور دفتر Xen صاحب ایبٹ آباد ارسال کرتے ہیں اور وہ نقشہ جات پشاور کلکٹر آفس میں بھی ہر 6 ماہ بعد فصل کے اختتام پر بھیجے جاتے ہیں۔ اگر پٹواری کسی بھی سکیم کا رقبہ کم لے یا افسران کو شک گزارے کی رقبہ آپاش شدہ کم لیا گیا تو فوری طور پر اپنے کوٹہ کے مطابق ضلعدار صاحب SDO صاحب ڈپٹی کلکٹر صاحب Xen صاحب کلکٹر صاحب پڑتال و شرتال کرتے ہیں اور برآمدہ نمبر ان پٹواری سے اسی فصل میں درج خسرہ کرائے جاتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ نقشہ جات ان کے پاس ہوتے ہوئے بھی کسی افسر نے پڑتال یا شرتال جو کہ افسران کا مقرر کردہ کوٹہ ہے نہیں کی گئی۔ نہ ہی پٹواری سے کمی رقبہ کا جواب طلب کیا گیا اچانک 4 سال بعد کمی رقبہ کا ان کو خیال آ گیا اور سارا نزلہ پٹواری پر گرا دیا گیا۔

8) یہ کہ مسائل پرایک الزام یہ بھی عائد کیا گیا کہ خیر باڑہ ڈیم کا 1600 ایکٹر CCA رقبہ جس کا اندراج نہیں کیا گیا جبکہ خیر باڑہ ڈیم موضع پھلیا لہ ٹوٹل دیہہ کا بھی 1600 ایکٹر رقبہ نہیں ہے۔ خود ضلعدار صاحب، VIO صاحب سیکشن ہری پور نے زمینداران کی درخواست پرایک عارضی دار بندی حال ہی میں تیار کی ہے جو کہ 1288 ایکٹر CCA پر مشتمل ہے۔

9) یہ کہ قبل ازیں جتنی بھی سکیمیں محکمہ کے حوالے کی گئی سب سے پہلے ان کی چک بندی تیار کرائی جاتی ہے۔ تاکہ رقبہ جات کے GCA اور CCA کا تعین ہو سکے لیکن 7 سال گزرنے کے باوجود تاحال خیر باڑہ ڈیم کی کوئی چک بندی نہ ہے۔ اندازاً ہی الزام پر رقبہ 1600 CCA تحریر کیا گیا یہ رقبہ کہاں سے لیا گیا بغیر چک بندی کے کیسے تعین کیا گیا کہ رقبہ 1600 ایکٹر ہے۔ خیر باڑہ ڈیم کا تاحال کوئی ریکارڈ پٹواری کو میسر نہیں ہے۔ باوجود بار بار رپورٹ کے محکمہ ہڈانے کوئی ریکارڈ مہیا نہ کیا۔

10) یہ کہ زمینداران کی درخواست پر سابقہ SDO صاحب عمران خان ایڈیشنل کمیشنر صاحب تحصیل غازی، ضلعدار صاحب سیکشن ہری پور 4 سال قبل خیر باڑہ ڈیم کا موقع ملاحظہ کر کے زمینداران سے مذاکرات بھی کیے تھے۔ اُس وقت نہر خیر باڑہ ڈیم ہیڈ سے Damarge ہوئی تھی اور پانی ضائع ہو رہا تھا اور ان کے علم میں تھا کہ رقبہ کی آپاشی پانی ضائع ہونے کی وجہ کم ہو رہی ہے۔ Water Course جو ڈیم مذکور کے لیے تیار کی گئیں ہیں ان سے آپاشی ناممکن ہے اور زمینداران Water Course میں بند لگا کر آپاشی کرتے ہیں کیونکہ موگہ جات واٹر کورس کے اوپر نصب ہیں۔

لہذا استدعا ہے کہ منظوری ہذا آرڈر نمبری 1199/18E ایکسین ہزارہ ایریگیشن ڈویژن ایبٹ آباد منسوخ فرما کر سائل اپیلانٹ کو اُس کے سکیل نمبر 7 پر معہ جملہ فوائد ملازمت کے احکامات صادر فرمائے جائیں۔ مہربانی ہوگی

المرقوم: 24-05-2017

الارض

Handwritten signature

ہارون خان ولد محمد یونس خان
سکنہ سرائے صالح تحصیل ضلع ہری پور

کاپی برائے:
1) جناب سیکرٹری صاحب ایریگیشن ڈیپارٹمنٹ سکریٹریٹ پشاور
2) سپرینٹنڈنگ انجینئر صاحب ایریگیشن ڈیپارٹمنٹ صوابی

12

0. 875

For Insurance Notices see reverse. Stamps affixed except in case of uninsured letters of not more than the initial weight prescribed in the Post Office Guide on which no acknowledgement is due.

Rs. Ps.

88 -

Received a registered* addressed to _____

Date-Stamp

Initials of Receiving Officer _____ *Write here "letter", "postcard", "packet" or "parcel" with the word "insured" before it when necessary. Insured for Rs. (in figures) _____ (in words) _____

Insurance fee Rs. _____ Ps. _____

Name and address of sender

Weight _____ Kilo _____ Grams _____

25-5-2017

0. 876

For Insurance Notices see reverse. Stamps affixed except in case of uninsured letters of not more than the initial weight prescribed in the Post Office Guide on which no acknowledgement is due.

Rs. Ps.

88 -

Received a registered* addressed to _____

Date-Stamp

Initials of Receiving Officer _____ *Write here "letter", "postcard", "packet" or "parcel" with the word "insured" before it when necessary. Insured for Rs. (in figures) _____ (in words) _____

Insurance fee Rs. _____ Ps. _____

Name and address of sender

Weight _____ Kilo _____ Grams _____

25-5-2017

If insured

وکالت نامہ

کورٹ فیس

بعدالت سروکل سٹیٹ بینک پشاور

عنوان: بیادون خان نام سکرٹری ایگزیکٹو ڈیپارٹمنٹ کورٹ پشاور

منجانب: اسپلینڈ

نوعیت مقدمہ: سروکل اسپل

باعث تحریر آنکہ

مقدمہ مندرجہ میں اپنی طرف سے واسطے پیروی و جواب وہی کل کاروائی متعلقہ آں مقام

عبدالغنیہ خان تنولی ایڈووکیٹ ساجی کورٹ اسپل ہمار

کو وکیل مقرر کر کے اقرار کرتا ہوں کہ صاحب موصوف کو مقدمہ کی کل کاروائی کا کامل اختیار ہوگا نیز وکیل صاحب موصوف کو کرنے راضی نامہ و تقرر حالت و فیصلہ بر حلف و دینے اقبال دعویٰ اور بصورت دیگر ڈگری کرانے اجراء وصولی چیک روپیہ و عرضی دعویٰ کی تصدیق اور اس پر دستخط کرنے کا اختیار ہوگا اور بصورت ضرورت مقدمہ مذکور کی کل یا کسی جزوی کاروائی کے لئے کسی اور وکیل یا مختار صاحب قانونی کو اپنے ہمراہ اپنی بجائے تقرر کا اختیار بھی ہوگا اور صاحب مقرر شدہ کو بھی و حق اور ویسے ہی اختیارات ہوں گے اور اس کا ساختہ پرداختہ مجھ کو منظور و قبول ہوگا۔ دوران مقدمہ جو خرچہ و ہر جانہ التوائے مقدمہ کے سبب ہوگا اس کے مستحق وکیل صاحب ہوں گے۔ نیز بقایا رقم وصول کرنے کا بھی اختیار ہوگا۔ اگر کوئی پیشی مقام دورہ پر ہو یا حد سے باہر ہو تو وکیل صاحب موصوف پابند ہوں گے کہ پیروی مقدمہ مذکورہ کریں اور اگر مختار مقرر کردہ میں کوئی جزو بقایا ہو تو وکیل صاحب موصوف مقدمہ کی پیروی کے پابند نہ ہوں گے۔ نیز درخواست بمراد استجارت نالش بیسٹہ مفلسی کے دائرہ کرنے اور اس کی پیروی کا بھی صاحب موصوف کو اختیار ہوگا۔

لہذا وکالت نامہ تحریر کر دیا تاکہ سند رہے۔

المرقوم: 20-9-2017

بمقام اسپلینڈ

العبد

Accepted
Shad

BEFORE THE HONORABLE KHYBER PAKHTUN KHWA SERVICE PESHAWAR.

Service Appeal No.1172/2017

1. Haroon khan.....Petitioner.

VERSUS

Secretary Irrigation Department Khyber pakhtunkhwa Peshawar and others

RESPONDENTS

Subject : parawise comments on the behalf of respondents No. 1-4

S#	DESCRIPTION OF DOCUMENTS	ANNEXURE	PAGE
1	Parawise comments along with Affidavit		
2	Copy of khasra girdawri	A	3-15
3	Reassessment list	B	16
4	Written statement of the appellant	C	17-23
5	Copy of pay slip and other supporting documents	D	24-31
6	Charge sheet	E	32
7	Show cause notice	F	33



Respondent No. 3
Executive Engineer HID Abbottabad

BEFOR THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL,
PESHAWAR.

HAROON KHAN V/S SECRETARY IRRIGATION DEPARTMENT, KHYBER
PAKHTUNKHWA PESHAWAR ETC

PARA WISE COMMENTS ON BE HALF OF RESPONDENTS ARE AS

UNDER

RESPECTFULLY SHEWETH

PRELIMINARY OBJECTIONS

1. That the Appellant has got no cause of action.
2. That the instant appeal is filed by suppressing the material facts from this honorable tribunal, hence not maintainable.
3. That the penalty was imposed on appellant because of decrease in assessed area from 86 acres to 6 acres by conducting regular inquiry as per rules and regulations.
4. That the instant appeal is against the prevailing law and rules.
5. That the instant appeal has been filed just to pressurize the respondents .
6. That the appellant has not come to this honorable tribunal with clean hands.

FACTS.

1. Para No 1. is correct to the extent that appellant is employee of irrigation department since dated 08/05/2013. Rest of the para is incorrect and dependant on the proof. His service has never been found satisfactory
2. Para No 2. is incorrect. Niyaz Patwari, the predecessor of appellant, assessed the area of 86 acres for crop Rabi 2013-14 (the first crop Irrigated by Khair Bara Dam). After that appellant brought the assessment to only 6 acres from the dam which was constructed on huge amount.
3. Para No 3. Is wrong. The father of appellant was Zilladar in the department at that time. He did not report of less assessment to higher office nor he checked the assessed area and also did not provided Naqsha No. 15 as per revenue manual (copy of Khasra Girdawri is annexed here with)

2013-14
for p. 6, 11, 10, 5
S

Nine = 2013

- 6/16 = 1003

1009 = 1000

2005 = 2000

6/16

2005

نقشہ نمبر 2/B موضع بیدیاہ نمبر حد بست

تحصیل تھانہ ضلع سرگودھا نہر

ڈویژن ڈی ایچ ڈی فصل 20/18

توڑ جھلار

خسرہ										شکار								
19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
رقبت	رقبہ قابل تحصیل		بجرائی رقبہ		اراضی دراصل		اراضی در باہر کاشت		اراضی جو پختہ ہوئی		پہاڑی پختہ		اندر ان جنس شکار		اراضی تخمینہ		اندراج جنس شکار	
	مرد	کمال	مرد	کمال	مرد	کمال	مرد	کمال	مرد	کمال	مرد	کمال	مرد	کمال	مرد	کمال	مرد	کمال
								6	10	2								30
									10	2								31
									10	2								32
									10	2								33
									10	2								34
									10	2								35
									10	2								36
									10	2								37
									10	2								38
									10	2								39
									10	2								40
									10	2								41

				3	18	1/2	6	29	3	18	طفر اقبال و دیگر نور علی خان	~	~	10	12
				5	12	1/2	6	29	5	12	عبدالرزاق و دیگر نور علی خان	~	21	11	13
				11	2	1/3	6	15	11	2	اکرم شاہ - عزیز شاہ - اربین بلوچ	~	204	3	14
				11	4	1/3	6	18	11	4	میرزا اقبال و دیگر نور علی خان	~	~	2	15
				11	2	1/3	6	18	11	2	نور علی خان - عزیز شاہ	~	~	4	16
				9	0	1/4	6	16	9	0	سید عزیز و دیگر نور علی خان	~	278	13	17
236				6	4	1/4	6	15	6	4	ایمن شاہ و دیگر نور علی خان	~	279	14	18
				8	6	1/4	6	22	8	6	نور علی خان و دیگر نور علی خان	~	276	15	19
				8	0	1/4	6	20	8	0	عقیدہ شاہ	~	277	15	20
				13	8	1/4	6	16	13	8	نور علی خان و دیگر نور علی خان	~	281	16	21
				6	14	1/4	6	18	6	14	عقیدہ شاہ	~	282	16	22
				22	6	1/4	6	20	22	6	مہمان نور علی خان و دیگر نور علی خان	~	283	17	23
				7	10	1/4	6	20	7	10	عقیدہ شاہ	~	131	17	24
				20	12	1/4	6	15	20	12	عقیدہ شاہ و دیگر نور علی خان	~	1415	18	25
				12	6	1/4	6	15	12	6	عقیدہ شاہ و دیگر نور علی خان	~	268	6	26
				15	8	1/4	6	18	15	8	عقیدہ شاہ و دیگر نور علی خان	~	266	19	27
				6	10	1/4	6	15	6	10	عقیدہ شاہ و دیگر نور علی خان	~	262	20	28
				3	4	1/4	6	16	3	4	عقیدہ شاہ و دیگر نور علی خان	~	1536	19	29
				3	4	1/4	6	16	3	4	عقیدہ شاہ و دیگر نور علی خان	~	263	19	29

236

236

236
12
32-0

268-12

268-12

32-0

تور
جھلار

ڈویژن
فصل 20
کھار

تحصیل عاری ضلع جھلار

نمبر حد بست
2/B موضع بیابان

خسرہ										شدکار																		
19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1										
کیفیت	رقبہ قابل تحصیل		مجال رقبہ		اراضی دراصل		اراضی دربارہ کاشت		نام جس جو پختہ ہوئی		پیمائش پختہ		رقبہ		اندراج جس شدکار		اراضی تخریبی		نام و کاشتکاری		نام و کاشتکاری		نام و کاشتکاری		نام و کاشتکاری		نام و کاشتکاری	
	مکال	مکال	مکال	مکال	مکال	مکال	مکال	مکال	مکال	مکال	مکال	مکال	مکال	مکال	مکال	مکال	مکال	مکال	مکال	مکال	مکال	مکال	مکال	مکال	مکال	مکال	مکال	مکال
						50	50	20	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
						50	50	20	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
						40	40	16	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
						210	210	18	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
						94	94	11	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
						1512	1512	20	1512	1512	1512	1512	1512	1512	1512	1512	1512	1512	1512	1512	1512	1512	1512	1512	1512	1512	1512	1512
						70	70	20	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
						70	70	20	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
						32	32	11	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
						32	32	20	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
						34	34	15	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34

13
11

9 205 205

20 20

20 20
205 205

7	8	20/11	7	8	434	27	42
32	0	18/11	32	0	417	28	43
22	4	15/11	22	4	255	29	45
10	0	20/11	10	0	418	30	45
10	12	16/11	10	12		31	46
16	18	22/11	16	18	393	32	47
14	6	20/11	14	6	388	30	48
11	2	20/11	11	2	390	32	49
7	14	20/11	7	14	389	34	50
24	0	20/11	24	0	386	19	51
12	12	22/11	12	12	385	35	52
5	4	20/11	5	4	411	36	53
2	12	20/11	2	12	410	37	54
4	10	16/11	4	10	405	37	55
3	12	18/11	3	12	408	37	56
17	16	20/11	17	16	423	36	57
6	0	15/11	6	0	428	26	58
11	14	20/11	11	14	420	38	59

Ann: "A"
 (13)
 6

3	4	7	15	19	3	2	الرياحات المائية	46	70	
5	0	10	10	7	22	5	لا فريش و لا كليم	52	44	71
5	0	10	10	29	5	0	مير سندان مير كور و مير	50	47	72
5	0	5	20	20	5	0	مير سندان مير كور و مير	48	48	73
5	8			22	5	8	مير سندان مير كور و مير	52	49	74
5	0	5	20	25	5	0	مير سندان مير كور و مير	45	1	75
6	8			22	6	8	مير سندان مير كور و مير	45	1	76
5	0	10	10	29	5	0	مير سندان مير كور و مير	19	50	77
10	0	10	20	22	10	0	مير سندان مير كور و مير	30	51	78
10	0	10	12	22	10	0	مير سندان مير كور و مير	40	18	79
10	0	10	16	22	10	0	مير سندان مير كور و مير	135	52	80
8	16	10	16	22	8	16	مير سندان مير كور و مير	128	18	81
10	0	10	20	22	10	0	مير سندان مير كور و مير	53	20	82
150	4				150	4				

140

10

20-20

نقشہ 110 فردی چھ آپیانہ موضع بھیلانہ فصل رعبہ 2013ء ڈویژن راجستھان فیروز پور تحصیل فیروز پور

نمبر کھاتہ	مالک مالکدار مزارع	رقم واجب الوصول	رقم سرجارج	نمبر کھاتہ	مالک مالکدار مزارع	رقم واجب الوصول	رقم سرجارج
1	محمد طارق و دیگر مزارع	1286-60	415-26	28	امیر خان و دیگر مزارع	362-50	398-75
2	میر امین فریدان محمد بیگ	392-50	431-75	27	ناور خان و دیگر مزارع	185-00	203-50
3	اردو بیگ سردار بیگ لال محمد بیگ	452-50	497-75	28	عبد العظیم و دیگر مزارع	800-00	880-00
4	زمان بیگ شہزاد بیگ لال	402-50	412-75	29	سید خان و دیگر مزارع	555-00	610-50
5	غفر بیگ و دیگر مزارع	75-00	92-50	30	علی دین و دیگر مزارع	250-00	275-00
6	محمد خان و دیگر مزارع	750-00	825-00	31	خوزدین و دیگر مزارع	265-00	291-50
7	محمد رفیق و دیگر مزارع	227-50	250-25	32	شہزاد بیگ و دیگر مزارع	700-00	770-00
8	محمد خان و دیگر مزارع	100-00	110-00	33	محمد خان و دیگر مزارع	357-50	393-25
9	محمد نور و دیگر مزارع	100-00	110-00	34	سلطان و دیگر مزارع	192-50	211-75
10	محمد جمال و دیگر مزارع	97-50	107-25	35	محمد نور و دیگر مزارع	315-00	346-50
11	محمد طارق و دیگر مزارع	400-00	154-00	36	محمد خان و دیگر مزارع	575-00	632-50
12	سین و دیگر مزارع	225-00	247-50	37	محمد زید و دیگر مزارع	267-50	294-25
13	اشفاق و دیگر مزارع	155-00	170-50	38	احسان طارق و دیگر مزارع	685-00	753-50
14	فرید خان و دیگر مزارع	502-50	552-75	39	شہزاد بیگ و دیگر مزارع	125-00	137-50
15	محمد خان و دیگر مزارع	745-00	819-50	40	محمد خان و دیگر مزارع	125-00	137-50
16	محمد خان و دیگر مزارع	985-00	108-35	41	محمد خان و دیگر مزارع	390-00	429-00
17	زمان و دیگر مزارع	1195-00	1314-50	42	محمد خان و دیگر مزارع	175-00	192-50
18	محمد خان و دیگر مزارع	312-50	343-75	43	محمد خان و دیگر مزارع	175-00	192-50
19	محمد خان و دیگر مزارع	62-50	60-75	44	محمد خان و دیگر مزارع	202-50	222-75
20	محمد خان و دیگر مزارع	62-50	68-75	45	محمد خان و دیگر مزارع	77-50	85-25
21	محمد خان و دیگر مزارع	205-00	225-50	46	محمد خان و دیگر مزارع	77-50	85-25
22	محمد خان و دیگر مزارع	147-50	162-50	47	محمد خان و دیگر مزارع	125-00	137-50
23	محمد خان و دیگر مزارع	207-50	228-25	48	محمد خان و دیگر مزارع	125-00	137-50
24	محمد خان و دیگر مزارع	107-50	118-25	49	محمد خان و دیگر مزارع	135-00	148-50
25	محمد خان و دیگر مزارع	923-60	1016-75	50	محمد خان و دیگر مزارع	724-50	796-75

(15)

رقم واجب الوصول	رقم واجب الوصول	رقم واجب الوصول	رقم واجب الوصول	رقم واجب الوصول	رقم واجب الوصول
				137-50 / 125-00	50
				275-00 / 250-00	51
				346-30 / 313-00	52
				275-00 / 250-00	53
				186-80 / 138-71	
				10169 / 26	
				79656 / 77	
				1758 / 81	1747 / 10
9571 / 86	19158 / 01	17611 / 01	970 / 85	17417 / 10	

11667

Sult Divisional Officer
SRI Irrigation Sub Div
HARIPUR

Handwritten notes and calculations:

10123 / 9610 = 780 / 10

2475 / 2475 = 52014

17417 / 10

1714 / 40 = 262 / 50

18387 / 10 = 18387 / 10

23707 / 10

52013-14

52014-15

52015

Handwritten signature/initials

نقشہ 11/8 فرد و باجہ آبیانہ موضع پیدلہ فصل خرفہ 2014، ڈویژن ہنہر پورہ تحصیل خیرپور ضلع ہنہر پورہ

نمبر کھاتہ	نالک - مالکدار مزراع	رقم واجب الوصول	خارج چارج رقم واجب الوصول	نمبر کھاتہ	نالک - مالکدار مزراع	رقم واجب الوصول	خارج چارج رقم واجب الوصول
1	خانہ محمد سعید خان	1250/-	1320/-		/		
2	محمد طارق خان ولد محمد سعید خان	1275/-	1402/-		/		
	/	2475/-	2722/-		/		
<p>نقشہ 11/8 فرد و باجہ آبیانہ موضع پیدلہ فصل خرفہ 2014، ڈویژن ہنہر پورہ تحصیل خیرپور ضلع ہنہر پورہ</p> <p>نمبر کھاتہ: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12</p> <p>نالک - مالکدار مزراع: محمد سعید خان، محمد طارق خان، محمد سعید خان، محمد سعید خان، محمد سعید خان، محمد سعید خان، محمد سعید خان، محمد سعید خان، محمد سعید خان، محمد سعید خان، محمد سعید خان، محمد سعید خان</p> <p>رقم واجب الوصول: 1250، 1275، 1275، 1275، 1275، 1275، 1275، 1275، 1275، 1275، 1275، 1275</p> <p>خارج چارج رقم واجب الوصول: 1320، 1402، 1402، 1402، 1402، 1402، 1402، 1402، 1402، 1402، 1402، 1402</p> <p>نمبر کھاتہ: 135، 2722، 247، 123، 2475</p> <p>نالک - مالکدار مزراع: محمد سعید خان، محمد طارق خان، محمد سعید خان، محمد سعید خان، محمد سعید خان، محمد سعید خان، محمد سعید خان، محمد سعید خان، محمد سعید خان، محمد سعید خان، محمد سعید خان، محمد سعید خان</p> <p>رقم واجب الوصول: 135، 2722، 247، 123، 2475</p> <p>خارج چارج رقم واجب الوصول: 135، 2722، 247، 123، 2475</p>							
<p>WILLADAR Incharge</p> <p>S&I Incharge Sub Dist</p> <p>HARIPUR</p>							

نقشه نمبر 2/B موضع بیابان

نمبر حدیست

تحصیل

ضلع بریالوی

نمبر خیابان ڈی ویژن ایس اے
فصل 20
2014-15

توڑ
جھلار

شدار										خرہ								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
نمبر شدار	تاریخ اندراج	نمبر کتا (کھولنا)	نمبر خرہ بندوبست	نام شدار	نام مالک بقید ولایت	نام مالک بقید ولایت	نام مالک بقید ولایت	اراضی تخمینہ	اندراج جس شدار	تاریخ تخمیری	پیمائش پختہ	رقبہ	نام جس جو پختہ ہوئی	اراضی در بارہ کاشت	اراضی در بارہ فصل	بجرائی رقبہ	رقبہ قابل تحصیل	حقیقت
					توڑ	توڑ	توڑ	مرل کناں		تاریخ	طول عرض	مرل کناں	مرل کناں	مرل کناں	مرل کناں	مرل کناں	مرل کناں	مرل کناں
1	10	1	124	محمد طارق خان ولد محمد پرواز خان	محمد	محمد	محمد	7 0	اندراج جس شدار	29/11	20	7 0	باقعی					
2		2	183	میرزا بیگ و فریاد میرزا بیگ	ن	ن	ن	6 0	باقعی	11/11	20	6 0	گنم					
3		3	181	اکرم بیگ پسران سفید بیگ	ن	ن	ن	5 0	گنم	18/11	20	5 0	گنم					
4		4		فرمان بیگ پسران سفید بیگ	ن	ن	ن	4 0	گنم	3/12	10	4 0	گنم					
5	12	5		عزت بیگ ولد عزیز بیگ	ن	ن	ن	4 0	گنم	11/11	2	4 0	گنم					
6		6		ن	ن	ن	ن	3 0	لائی		20	3 0	باقعی					
7		7	179 180	جلیل خان ولد روشن دہل	ن	ن	ن	6 0	باقعی	11/11	20	6 0	باقعی					
8		8	1574 1582 178	محمد اوسفر ولد محمد پرواز خان	ن	ن	ن	5 0	باقعی	11/11	20	5 0	باقعی					
9		9	214	ن	ن	ن	ن	3 0	گنم	19/11	10	3 0	گنم					
10		10	212	محمد خان پسران اسیر خان	ن	ن	ن	2 0	گنم	8/11	10	2 0	گنم					
11	14	11	213	علی نواز ولد میر خان	ن	ن	ن	2 0	گنم	9/11	15	2 0	گنم					
				ظفر اقبال ولد محمد پرواز خان	ن	ن	ن	2 0	گنم	20/11	10	2 0	گنم					

بقیہ
رقبہ باقی
توڑ
کناں باقی
توڑ
کناں باقی

(10)

20
 12/14

	2	0	4	10		87/11			2	0	2	0	2		2	0	4	10	15		89	20/11																
	2	0	4	10		27/11			1	0	1	0	1		1	0	4	5	15		27/11																	
	4	0	8	10		3/11			4	0	4	0	4		4	0	8	10	2		3/11																	
	2	0	4	10		9/11			2	0	2	0	2		2	0	4	10	2		9/11																	
	1	0	4	5		12/11			1	0	1	0	1		1	0	4	5	1		12/11																	
	2	0	4	10		11/11			2	0	2	0	2		2	0	4	10	1		11/11																	
	3	0	6	10		3/11			3	0	3	0	3		3	0	6	10	15		3/11																	
	2	0	4	10		2/11			2	0	2	0	2		2	0	4	10	2		2/11																	
	2	0	4	10		2/11			2	0	2	0	2		2	0	4	10	2		2/11																	
	2	0	4	10		3/11			3	0	3	0	3		3	0	6	10	15		3/11																	
	3	0	6	10		13/11			3	0	3	0	3		3	0	6	10	15		13/11																	
	2	0	4	10		13/11			2	0	2	0	2		2	0	4	10	2		13/11																	
	2	0	4	10		3/11			2	0	2	0	2		2	0	4	10	2		3/11																	
	3	0	6	10		3/11			3	0	3	0	3		3	0	6	10	15		3/11																	

تقریر فیروز پاجھ آبیانہ موضع بیدار فصل 15-2014 ڈویژن اینڈ سب ڈویژن ہری پور

رقم	نمبر	نالک- مالگذار- حزارہ	رقم	نمبر	نالک- مالگذار- حزارہ	رقم	نمبر	نالک- مالگذار- حزارہ	رقم	نمبر	نالک- مالگذار- حزارہ
واجب الوصول	کھاتہ		واجب الوصول	کھاتہ		واجب الوصول	کھاتہ		واجب الوصول	کھاتہ	
			288/75	262/50							
			206/58	187/80							
			172/15	156/50							
1087	2174	987	137/72	125/20							
73	159	185	137/72	125/20							
			247/50	225/50							
			309/54	281/40							
			68/86	62/60							
			68/86	62/60							
			68/86	62/60							
			34/43	31/30							
			137/72	125/20							
			68/86	62/60							
			34/43	31/30							
			68/86	62/60							
			123/75	112/50							
			2174/59	1976/90							

نہیں کھاتہ

KHANPUR

Sub Divisional Officer
S & I Sub Division
Haripur

نقشہ نمبر 2/B موضع بلیار بمبر حدیست تحصیل ضلع ہریانہ، نہر فیروز پور ڈویژن

خرہ		شدکار										
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
رقبہ	پیمائش پختہ			اندراج جنس شدکار		نام اللہ راز بقید ولدیت	نام اللہ راز بقید ولدیت	نام مالک بقید ولدیت	نمبر خسرہ بقید ولدیت	نمبر کھانہ (کھوئی)	تاریخ اندراج	نمبر
	معرض	طول	تاریخ	تاریخ تخمینہ	نام جس جو پیلے ہوئی							
5 0 5	20	18	18	5	0	محمد طارق خان ولد لکھو در خان	محمد طارق خان	محمد طارق خان	124	1		1
3 0 6	10	1	9/6	3	0	فرزاد بیگ	فرزاد بیگ	فرزاد بیگ	183	2		2
2 10 2	25		18	2	10	اکرم بیگ	اکرم بیگ	اکرم بیگ	181	3		3
3 0 3	20		18	3	0	عزت بیگ	عزت بیگ	عزت بیگ		4		4
4 0 4	20		18	4	0	جلیل خان	جلیل خان	جلیل خان	179 180	5		5
3 0 3	20	10	14/7	3	0	محمد یوسف	محمد یوسف	محمد یوسف	1574 1575 1578	6	8	6
2 0 2	20		9/6	2	0	جسیم خان	جسیم خان	جسیم خان	212	7		7
2 0 4	10		7/7	2	0	عبدالرزاق	عبدالرزاق	عبدالرزاق	211	8		8
2 0 4	10		18	2	0					8		9
6 0 6	20		18	6	0	عظمدین	عظمدین	عظمدین	416	9		10
2 0 4	10	15	11/7	2	0	اکرم بیگ	اکرم بیگ	اکرم بیگ	204	3		11

(12)

نقشہ 1115 فرد پانچہ آبیانہ موضع بیدیار فصل خریفہ 2015 ڈویژن ٹنڈوالہوار ضلع منیر مالاہ ڈیپارٹمنٹ ٹنڈوالہوار

نمبر کھاتا	مالک مالگذار - مزاعہ	رقم - فاجیب الوصول	نمبر کھاتا	مالک مالگذار - مزاعہ	رقم فاجیب الوصول
1	محمد طارق خان ولد سردار خان	187/50	206/25		
2	میرزا بیگم خدیجہ بیگم ولد میرزا حسین	93/90	103/29		
3	اکرم بیگم ولد سکندر بیگم	156/35	171/98		
4	سرتوت بیگم ولد میرزا بیگم	112/50	123/75		
5	تھیل خان ولد روشن حسین	150/50	165/50		
6	محمد سعید ولد حسن حسین	93/90	103/29		
7	میرزا خان محمد ولد میرزا حسین	62/60	68/86		
8	عبدالرزاق ولد سردار خان	137/60	151/36		
9	عطر حسین ولد نور حسین	225/50	247/50		
10	محمد خان محمد ولد غلام محمد	75/50	82/50		
11	سکندر خان ولد عبدالغفور	225/50	247/50		
12	خواجہ خان ولد محمد خان	206/25	226/87		
13	اشفاق طارق ولد میرزا محمد الوداد	112/50	123/76		
		1838/10	2021/91		

مستحقان

محمد طارق خان ولد سردار خان

میرزا بیگم خدیجہ بیگم ولد میرزا حسین

اکرم بیگم ولد سکندر بیگم

سرتوت بیگم ولد میرزا بیگم

تھیل خان ولد روشن حسین

محمد سعید ولد حسن حسین

محمد خان محمد ولد غلام محمد

سکندر خان ولد عبدالغفور

خواجہ خان ولد محمد خان

اشفاق طارق ولد میرزا محمد الوداد

2021/91

1838/10

محمد طارق خان

میرزا بیگم خدیجہ بیگم

اکرم بیگم

سرتوت بیگم

تھیل خان

محمد سعید

محمد خان محمد

سکندر خان

خواجہ خان

اشفاق طارق

درج ذیل تفصیل کی زمینداران خرابارہ ڈیم نے موقعہ پر نشاندہی کی۔

سیرل نمبر	نام	مرلہ	کنال	فصل
1	اورنگزیب خان	0	40	باغیچہ
2	حمود ولد یعقوب خان	0	35	دائیں
3	ایضا	0	8	کئی
4	سمیل خان ولد شیرداد	0	4	کئی
5	حاجی فرمان ولد غلام علی	0	6	2 کئی 4 باغیچہ
6	برگیدیر ساجد	0	82	باغیچہ
7	شاہ نواز	0	9	1 کئی 8 دائیں
8	موازی خان ولد اسحاق خان	0	6	کئی
9	بنارس ولد نجیب اللہ	10	2	چری
10	اول خان ولد صاحب خان	0	2	دائیں
11	حاجی عنایت خان ولد غلام خان	0	3	باغیچہ
12	احمد خان ولد خان زمان	0	4	باغیچہ، کئی
13	حاجی نواز	10	0	کئی، بڑی
14	دلاد خان	10	15	دائیں
15	ساجد میرا	0	1	کئی
16	برگیدیر ساجد خان	0	22	باغیچہ، کئی
17	شعیب خان ولد اشرف	0	4	کئی
18	صفدر خان	0	8	باغیچہ، کئی
19	ناصر ولد عبد القادر	0	50	دائیں
20	یاسر ولد بشیر	0	10	دائیں
21	صابر ولد صادق	0	5	کئی
22	ایضا	0	2	دائیں
23	رفاعت، لیاقت ولد عبد القیوم	0	3	کئی
24	ایضا	0	26	دائیں
25	اصغر بیک	0	3	باغیچہ
26	طارق خان	0	60	باغیچہ
27	ایضا	0	140	دائیں
28	ناصر خان	0	70	باغیچہ، کئی
29	فرمان	0	20	کئی
30	شیر افضل	0	50	باغیچہ
31	احسن ولد خان افسر	0	200	دائیں
	ٹوٹل	10	891	

2-300s

Confidential

Ann: "C"

2

27

(17)



OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER (NORTH)
IRRIGATION DEPARTMENT PESHAWAR

Email address: irrigation_dev@yahoo.com Phone & Fax No. 091-9212123

No. 926 /North/

Dated Peshawar the 21 /03/2017

To: The Superintending Engineer
Head Quarter (North)

Subject: INSPECTION NOTE.

Ref: Your office letter No. 4824/North/1-E(ii), dated 08-09-2016.

Enclosed please find herewith the requisite Inquiry report (04 pages) for further appropriate necessary action as desired vide the above letter under reference please.

Encl: As above

[Signature]
TECHNICAL OFFICER

CC

for comments
[Signature]

04/4/17

S/R
put up
on file.
15/4

CC

OFFICE OF C.E (North) IRR: DEPT:	
Mian Dairy No.	
Date	4/4 12/6
C.E	LD (S)
S.E (N.O)	LD (E)
A.D	TO
AAO	

R-E

[Signature]
5/4

Ann: "C" ✓ 2
 18

tion
 1251
 16-7-12

No.3/3/2002-W.III
 Government of Pakistan
 Ministry of Water and Power

Islamabad July 12, 2012.

The Secretary,
 Irrigation Department,
 Government of Khyber Pakhtunkhwa,
 Peshawar.

SUBJECT: CONSTRUCTION OF KHAIR BARA DAM PROJECT (REVISED)

I am directed to convey the administrative approval of the Government of Pakistan to execution of the following project was approved by CDWP in its meeting held on 18th June 2012:

S.No.	Name of Project	Decision
(i)	Construction of Khair Bara Dam Project (Revised).	The project was approved at a cost of Rs.284.840 million including Rs.38.87 million to be borne by the Provincial Government from their own resources.

- The monthly progress report in respect of the above mentioned scheme may be submitted regularly.
- All codal formalities and guidelines may be observed strictly while implementing the scheme.

(Zamir Ehsan)
 Section Officer (W.III)

Secy Irrigation

Distribution:

- Secretary, Finance Division, Islamabad.
- Joint Secretary (Committee), Cabinet Division, Islamabad.
- DFA (W&P), Islamabad.
- Planning and Development Division (PIA Section), Islamabad.
- CEA/CFFC, Islamabad
- SO(W.I)
- A.C(Dev), MOWP, Islamabad.

Handwritten notes and signatures:
 16/7/12
 D.G. SD
 W&P all concerned for ya
 M.M
 17/07
 61

Ann: "C"

2
190

CONFIDENTIAL

INQUIRY REPORT

A. GENERAL/ AUTHORIZATION

In pursuance to Superintending Engineer Head Quarter (North) Office order No. 824/North/1-E, dated 08-09-2016, an inquiry committee comprising of the following officers was constituted to probe the matter of meager assessment of Irrigated area under the command of newly constructed "Khair Bara Dam District Haripur".

- i. Engr. Rookhul Mohsin Technical Officer o/o the Chief Engineer (North)
- ii. Mr. Raham Zeb Khan Deputy Collector Hazara Irrigation Division Abbottabad

B. PROCEEDINGS:-

To proceed with the inquiry office of the Director General Small Dam Organization in response to the committee request, furnished handing/taking over paper alongwith other pertinent information of the subject noted dam.


The site was visited by the Inquiry Committee on 03-01-2017 alongwith Canal Collector (North), Sub Divisional Officer, Zilladar & Sub Engineer concerned.

The Patwaries namely Mr. Haroon Khan & Mr. Niaz Ahmad who couldn't join the inquiry committee on the date of its inspection, appeared before the Committee on 05-01-2017 & submitted their written statement enclosed as (Annex-I)

C. BACK GROUND.

Khair Bara Dam is situated in District Haripur. Physical work on the project was commenced in 19-06-2007 and completed on 11-01-2013. Total cost of the Project is Rs. 284.84 Million. Other salient features of the Dam are furnished as under:-

- | | | |
|--------------------------------------------|---|-------------------|
| • Live storage capacity | = | 488.76 Acres feet |
| • Dead storage capacity | = | 16.73 Acres feet |
| • Cultivable Command Area | = | 1600 Acres |
| • Design Discharge of the off-taking Canal | = | 4.85 cusecs |
| • Length of the Irrigation Canals | = | 26500 Acres |



Quarior 21/3/17
P1/4

After completion of the Project, the facility was handed over to Hazara Irrigation Division on 1-01-2013. Subsequently the dependent/designed command area of the Scheme started utilizing water of the newly constructed reservoir. Accordingly the irrigated area of the reservoir was assessed by the concerned revenue staff. A brief detail of the assessment is furnished as under:-

S. No	Crops	Assessed Area
1.	Kharif 2014	8 Acres
2.	Rabi 2014-15	7 Acres
3.	Kharif 2015	7 Acres
4.	Rabi 2015-16	6 Acres

Keeping in view the meager area assessed by the concerned revenue staff, the collector Irrigation (North) visited the area wherein it was observed that the actual area irrigated (from the newly constructed dam) was many fold larger than the assessed figures of the concerned Revenue staff. (copy of the inspection report and details of irrigated area assessed by Canal collector is enclosed as Annex II). In order to have impartial investigation of the alleged negligence of the revenue staff, the instant inquiry was ordered as already elaborated above.

D. FINDINGS & OBSERVATION

On 04-01-2017, the site was visited by the Inquiry Committee, the Canal Collector North, SDO concerned and other relevant staff of Hazara Irrigation Division. The newly constructed Irrigation Canal was visited from head up to RD 6+500.

During the course of the stated visit, SDO Haripur intimated that Irrigation Canal at RD 5+000 sustained damages in July 2016 which was restored in September 2016. It was also observed that no proper water courses were in existence for conveyance of Irrigation water from Canal to the Command area. The cultivators just erect bunds across the channel and raise the water level to their lands/Katcha water course.

A pipe outlet on main canal at RD 0+400 left was observed completely choked. Consequently the Irrigators concerned divert Irrigation Water by damaging the left side wall at RD 0+50/L & conveying the water to the dependent command area through natural nullah/khwar having shingles/gravels bed formation thus wasting substantial quantum of precious irrigation water.

During the course of the site visit, the staff was asked about the Engineering/Revenue chakbandi of the designed cultivable area. However it was reported that the same is not prepared as yet. The handing/taking over papers of the Khair Bara Dam ^(Annex II) are also silent about these very important tasks/documents. Ironically neither the client could pay appropriate attention towards this

[Handwritten signatures and dates]
 21/3/17

important assignment during the currency of the project, nor the Irrigation Division responsible for O&M of the facility.

Ann: "C" 2
21

Construction of Water Course is another important segment which should have been taken up with On Farm Water Management (OFWM) well in time. Without proper water courses, it is not even possible for the end user/cultivator, to utilize the Irrigation water conserved after construction of Khair Bara Dam through huge investment worth Rs. 284.840 Million from the National exchequer.

As a consequence of the above, the facility could only serve a small tract of the designed command area. Despite of the above given reasons the actual irrigated area was witnessed to be quite larger as compared to the assessment made by the lower revenue formation in the 1st 3 years.

The concerned Patwaries who appeared before the enquiry team on 05-01-2017 submitted their written statement, wherein they have highlighted the facts like non-availability of revenue chakbandi, non-construction of appropriate outlet structure & water courses and non-deployment of operational staff as yet, as the impediments in appropriate assessment of the irrigated area.

CONCLUSION

From the record, hearings and discussions with the concerned officers and officials of the department the inquiry committee has arrived at the conclusion that:-

As per Canal & Drainage Act, 1873 and the Revenue Manual, the role of Irrigation Staff regarding Assessment of the Irrigated Area and its (checking) Partal/Shartal has been very clearly defined vide different paras/ chapters as detailed below.

Chapter 2, Revenue Manual page 27,28 and 29 (Duties of Zilladar)



Chapter 3, Revenue Manual Pages 46,47,(Duties of Deputy Collector Irrigation).

Chapter 6, Revenue Manual, Pages 70, 71 (Duties of SDO).

Chapter 7, Revenue Manual, Page 87 (Duties of Divisional Canal Officer)

However, it was observed that the assessment conducted by the lower revenue staff couldn't be checked by any of the responsible officer being their legitimate duty as spelled over in the Revenue Manual. The situation would have been certainly better if the superior engineering and Revenue staff had bothered to check the work accomplished by the Patwaies.


Furthermore, non-availability of necessary revenue chakbandi does transpires the fact that this important task was completely ignored perhaps due to over engagement of the XEN and SDO concerned in the management/supervision of other construction activities.


P 3/4

21/3/17


Ann: "C" 2
22

F. RECOMMENDATIONS:-

- The Divisional officer/Executive Engineer concerned may be provided necessary funds for preparation of the complete Revenue Chakbandi of the Scheme.
- Provision of appropriate outlet structure be included in ADP/O&M program so that the potential cultivator could avail the facility of Khair Bara Dam for their subsistence. This would also generate appropriate revenue for the provincial exchequer.
- The issue of water courses construction should be immediately tackled with On Farm Water Management (OFWM). An appropriate network of water courses could enable the designed command area of the Project to extract optimal benefits out of the Project.
- The unjustified and irrational assessment of the Irrigated area as compared to the actual extent of irrigation reported vide Canal Collector (North) letter No. 4738/Norht/7-R(N), dated 01-09-2016 (Annex-III) was checked at random by the Inquiry Committee during its site visit dated 03-01-2017. The report of the Canal Collector is hereby endorsed.
- This could be termed as negligence/laxity on the part of the concerned formation especially the revenue staff (Patwaries) who were supposed to have actual assessment of the irrigated area followed by appropriate checking/Partal/Shartal by the immediate higher officer(s)/Management.



Mr. Raham Zeb
Deputy Canal Collector
Hazara Irrigation Division Abbotabad



Engr. Rookul Mohsin
The Inquiry Officer/Technical Officer
Office of the Chief Engineer (North)
Irrigation Department, Peshawar

2/4/4

بیان چھاروں خان پواری حلقہ شمال ڈیم پھر لور۔

حسین نے فیروز پور ڈیم کا جائزہ فصل بریو 15-2014ء سے حاصل کیا۔ موقع پر عملدرستی

کی گورنری کرتے وقت درج کردہ پتہ سے لیکر لور گورنری کے زمینداران سے

آپٹیشن وائے وقت کی آپٹیشن کر رہے تھے۔ جسکی رپورٹ ضلعدار صاحب کو دی۔

جس پر ضلعدار صاحب SDO محمد عمران صاحب اور اے سی صاحب خان زمینداران

نے پھر وہ موقع پر بھی گئے۔ اور زمینداران کو ناجائز آپٹیشن سے منع کیا گیا

زمینداران کو ناجائز آپٹیشن سے منع کیا گیا صرف ان کے پتہ کے حقوق سے

آپٹیشن قبل از میں بھی اسی طرح تھے۔ اور ہم اس کو بند نہیں کرتے۔

محکمہ خزانے بذریعہ سالانہ آگے آپٹیشن کا ناکہ دیا گیا تھا لیکن ان لوگوں نے

اس کو پھر وہاں سے پھر ایسا کیا۔ بعد میں جب پتہ اور سے متعلقہ ڈیم سے لوب

پھر لے گئے اور جہاں سے ناجائز آپٹیشن ہو رہی تھی تشریح عمل سے

11-81 صاحب نے وہ بند کرانی۔

حال میں فیروز پور ڈیم کے بند و پتہ سے علی ہیں اور ان میں چند ہی پتہ پور ہیں

پتہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ ڈیم کے پتہ کے متعلق ہا جاہ سے ایک پتہ

کی بھی پتہ پور ہے اس سے قبل ڈیم کے پتہ کے متعلق ہا جاہ کی شہد

درست طریقے سے نہ کی گئی ہے۔ جسکی وجہ سے متعلق آپٹیشن نہیں ہو

ایسی ہے۔ جس وقت کی آپٹیشن پور ہے جس نے درج کر دیا ہے۔

رپورٹ کرنا ہے۔

چھاروں خان پواری

5-01-017

3/1/17

Handwritten signature and stamp: "A. M. Khan" and "24-11-17"

فہرست ڈالاکو حرم خیراتہ

نمبر	نام حرم و والدین	اصل رقم 2013-14	ابج 2013-14	تفاوت
1	محمد رفیق خان	1286.60	3500/-	2214
2	محمد امین خان	392.50	800/-	408
3	محمد امین خان	452.50	1000/-	548
4	محمد امین خان	402.50	1000/-	598
5	محمد امین خان	75.00	200/-	125
6	محمد امین خان	750.00	1800/-	1050
7	محمد امین خان	227.50	800/-	573
8	محمد امین خان	100.00		
9	محمد امین خان	100.00		
10	محمد امین خان	97.50		
11	محمد امین خان	140.00		
12	محمد امین خان	225.00	800/-	575
13	محمد امین خان	155.00		
14	محمد امین خان	502.50	1500/-	998
15	محمد امین خان	745.00	1600/-	855
16	محمد امین خان	985.00	2000/-	1015
17	محمد امین خان	1195.00	2500/-	1305
18	محمد امین خان	312.50	1000/-	688
19	محمد امین خان	62.50		
20	محمد امین خان	62.50		
21	محمد امین خان	205.00		
22	محمد امین خان	147.50		
23	محمد امین خان	207.50		
24	محمد امین خان	407.50	1000/-	593
25	محمد امین خان	362.50	1000/-	638
26	محمد امین خان	185.00		
27	محمد امین خان	800.00	2500/-	1700
28	محمد امین خان	555.00	1200/-	645
29	محمد امین خان	250.00		
30	محمد امین خان	265.00		
31	محمد امین خان	700.00	1600/-	900
32	محمد امین خان	357.50	1000/-	643
33	محمد امین خان	192.50		
34	محمد امین خان	315.00	1200/-	885

مجموع اصل رقم 13219
مجموع ابج 16956
تفاوت 3737

پہلے دو سال کے حریف طلبہ بارہ ڈیم

نام فارغ التحصیل طالبہ / طالبہ
 اصل رقم 2013-14
 جو وصول ہوئی ہے
 اصل رقم 2013-14
 تفاوت

تفاوت	اصل رقم 2013-14	جو وصول ہوئی ہے	اصل رقم 2013-14	نام فارغ التحصیل طالبہ / طالبہ	نمبر
625/-	1200/-	575.00		غلام شریف مدد شریف	36
		267.50		محمد رفیق مدد کورخان	37
815/-	1500/-	685.00		ارتضیٰ طارق بیرون کمالپور	38
		125.00		سید افضل دہلوی مدد کورخان	39
		125.00		محمد رفیق مدد کورخان	40
810	1200/-	390.00		خواجہ فیاض کمالپور	41
		175.00		شاہد کمالپور	42
		175.00		خاموش کمالپور	43
		202.50		ساجد علی مدد کورخان	44
		77.50		ارشاد کمالپور مدد کورخان	45
		77.50		اشرف کمالپور	46
		125.00		محمد سعید کمالپور	47
		125.00		محمد رفیق کمالپور	48
		135.00		محمد قاسم دہلوی کمالپور	49
		125.00		محمد جواد کمالپور	50
		250.00		محمد سلیم دہلوی کمالپور	51
	1200/-	313.00		محمد رفیق کمالپور	52
		250.00		محمد رفیق کمالپور	53

2250/-

16956/-

19206/-

4198/-

فہرست ڈاکو حرم ضیاء المصباح خیرات اہل بیت

نمبر	نام حرم والہ	ایم 2013-14	ایم 2014	ایم 2014-15	ایم 2015
1	محمد طارق خان	1286.60	1275.00	262.50	187.50
2	مرزا بیگم دینہ بیگم	392.50	-	187.80	93.90
3	انجم بیگم	452.50	-	156.50	156.35
4	فول بیگم	402.50	-	125.20	142.50
5	فرزت بیگم	75.00	-	125.20	112.50
6	محمد رفیع خان	750.00	-	225.00	150.00
7	محمد یوسف خان	227.50	-	281.40	93.90
8	محمد رفیق خان	100.00	-	62.60	62.60
9	محمد رفیق خان	100.00	-	62.60	-
10	محمد رفیق خان	97.50	-	62.60	-
11	محمد رفیق خان	140.00	-	31.30	137.60
12	لیسن خان	225.00	-	125.20	-
13	رشید خان	155.00	-	62.60	-
14	فرید خان	502.50	-	62.60	-
15	میا حفیظہ	745.00	-	112.50	-
16	محمد رفیق خان	985.00	-	-	-
17	رفیقہ بیگم	1195.00	-	-	-
18	محمد رفیق خان	312.50	-	-	-
19	محمد رفیق خان	62.50	-	-	-
20	فضل خان	62.50	-	-	-
21	رفیق خان	205.00	-	-	-
22	محمد رفیق خان	147.50	-	-	-
23	محمد رفیق خان	207.50	-	-	-
24	محمد رفیق خان	407.50	-	31.30	-
25	محمد رفیق خان	362.50	-	-	-
26	نادر خان	185.00	-	-	-
27	عبدالغفور خان	800.00	-	-	-
28	محمد رفیق خان	555.00	-	-	225.00
29	محمد رفیق خان	250.00	-	-	225.00
30	محمد رفیق خان	265.00	-	-	-
31	محمد رفیق خان	700.00	-	-	-
32	محمد رفیق خان	357.50	-	-	75.00
33	محمد رفیق خان	192.50	-	-	-
34	محمد رفیق خان	315.00	-	-	-

1519/35 1976/60 1275/10 13219/10

مطلوبہ
Pappala

27

اجلاسی صاحب
مہتمم صاحب ہزارہ ایریگیشن ڈویژن اینٹ آباد
مہتمم ہزارہ ایریگیشن ڈویژن اینٹ آباد

محمد خان خان ولد محمد سرور خان	3550/- (2)	محمد خان ولد غلام علی - 1000/-
محمد علی خان ولد محمد سرور خان	8000/-	مفتوحہ ولد سلوب - 1200/-
محمد علی خان ولد محمد سرور خان	1000/-	غلام علی خان ولد محمد سرور خان - 1200/-
محمد علی خان ولد محمد سرور خان	1000/-	اقبال خان ولد محمد سرور خان - 1300/-
محمد علی خان ولد محمد سرور خان	2000/-	خواجہ خان ولد محمد خان - 1200/-
محمد علی خان ولد محمد سرور خان	1800/-	ناہ خان ولد محمد سرور خان - 1200/-
محمد علی خان ولد محمد سرور خان	800/-	
محمد علی خان ولد محمد سرور خان	800/-	
محمد علی خان ولد محمد سرور خان	1500/-	محمد علی خان ولد محمد سرور خان - 1500/-
محمد علی خان ولد محمد سرور خان	1600/-	محمد علی خان ولد محمد سرور خان - 1600/-
محمد علی خان ولد محمد سرور خان	2000/-	محمد علی خان ولد محمد سرور خان - 2000/-
محمد علی خان ولد محمد سرور خان	2500/-	محمد علی خان ولد محمد سرور خان - 2500/-
محمد علی خان ولد محمد سرور خان	1000/-	محمد علی خان ولد محمد سرور خان - 1000/-
محمد علی خان ولد محمد سرور خان	1000/-	محمد علی خان ولد محمد سرور خان - 1000/-
محمد علی خان ولد محمد سرور خان	2500/-	محمد علی خان ولد محمد سرور خان - 2500/-
محمد علی خان ولد محمد سرور خان	2000/-	محمد علی خان ولد محمد سرور خان - 2000/-
محمد علی خان ولد محمد سرور خان	1600/-	محمد علی خان ولد محمد سرور خان - 1600/-

03005642080
281
7/12
115

7000
RS. 33150/-

1

جناب عالی

آپ کی جواب طلبی پر ذیل گزارشات تحریر ہیں۔

محمدناز خان کا لاہور نے سابقہ گرانٹ عارضی وارنٹوں کی تیار کرانے موقع پہلے ہی سے
تھے۔ سابقہ میں رقبہ جات کی جانچ پڑتال کرتے رہے کیونکہ کلکٹر صاحب نے سابقہ
کی رپورٹ کے مطابق موقع پہلے ہی وارنٹ 1600 (تین ہفتے) عارضی وارنٹوں میں
موقع پر محمدناز خان کا لاہور کی حصار کے تحت 288 ایکڑ زمین آباد ہوئی۔
حال وہ وارنٹوں کے تحت نہیں ہوئی ہے۔ اور اس میں کافی ایسا موجود ہے
جس سے گورنمنٹ درج فیسہ تیار ہے وہ محمدناز خان کا لاہور کی موجودگی میں
تیار ہے اور بالکل درست ہے۔

آپ کو رقبہ کی عین پیش کش ہے کہ پڑتال کر سکتے ہیں
اور آپ نے تمہیں علم پر عین بقایا زمین درج فیسہ لبر آباد ہونے
پر درج کر دوں گا۔

قبل از میں میری تفریحی جو ہوئی تھی وہ غیر قانونی تھی اس پر عین
نے افسران بالا کو اپیل کر دی ہے اس کی منظور میں نہ ہونے پر عین
اپنا قانونی حق استعمال کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہوں اور مجھے قومی امید
تھیک میرے ساتھ العاف ہو گا۔

میرا کوئی بھی کام محمدناز خان کا لاہور نہیں تیار ہے جس نے خود تیار ہے
اب وہ لاہور میں نہیں ہے اور اس کی تیار رہا ہے اس کا احسان آپ کو جتانے
کی ضرورت نہیں ہے۔

میرے پاس غیر آباد زمین کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے محمد مال والوں سے
جو سب سے پہلے ان کا نام تھا۔ ان کے لئے یہ ہے۔

(2)

حضرت خان صاحب پٹواری پٹواریوں کے جواب پر آپ نے فرمایا کہ آپ نے
اوپر دی حکمت کے مطابق کے حکم پر بلالہ علیہ کا رخصت ہو گیا ہے وہ کتنا ہے
تاکہ سر پر کاروائی عمل میں لائی جائے۔

پٹواری

Signature

Dated: 02-06-17

خان صاحب

حسب احکام دین کے مطابق میں نے جو رقم

موصوفہ پٹواریوں کا بچہ 25-28 روپے قابل کاشت ہر آمد سے اٹھائی

رقمہ کل 298 روپے اور جو رقم بلالہ علیہ کے پٹواریوں نے جو رقم 38 روپے

کیا ہے جو کہ ان رقموں سے ضائع کیا ہے اور جو رقم کارروائی اور سال سے

رقمہ ان کے وقت پٹواریوں اور ان کا درجہ بلالہ علیہ کے پٹواریوں سے

مبارک آباد
سے لیا گیا

مبارک آباد سے پٹواریوں کے پاس سے پٹواریوں کے پاس سے

پٹواری پٹواریوں کے پاس سے پٹواریوں کے پاس سے

کیا اور پٹواریوں کو فریادی صورت میں لیا گیا

از دفتر مندرار بر پور تا چارون ٹیواری (سماں ڈیلرز)

آپکی Explanation ٹیواری کا جواب نے جواب نے دیا ہے جس میں آپ نے ٹیواری
251
1-3
زبان استعمال کی جو کہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ آپ نے کوئی بھی ٹیواری
جواب نہ دیا۔ آپ کو صداقت کی عاتق ہے کہ آپ ان تمام زمینداران کو جو رقبہ
ہمارے ہی وارنڈی کنڈیک لیا گیا ہے، عزدا فردا ٹیواری اطلاع دیا کریں کہ جو
سور نم 07/06/17 کو ڈیڑھ طاری خان میں بوقت 9:00 بجے حاضر ہیں تاکہ
ہمارے ہی وارنڈی کے رقبہ جات کی تصدیق موقع پر ہو سکے۔ آپ 07/06/17
سے پہلے تمام زمینداران کو ٹیواری اطلاع دیا کریں اور ان کے دستخط و انگلیوں
کے نشان بطور ثبوت اپنے پاس رکھیں اور ذیل دستخطی کو دیں۔

بروگرام پر عمل نہ ہونے کی صورت میں جو منع پھیلایا گیا میں کسی کی تمام
ترجمہ دای آپ پر عائد ہوگی۔ نوٹ: موقع پر تصدیق شدہ رقبہ
حصص 2016/17 کیلئے آبپاش شدہ رقبہ لیا جائے اس سے کم رقبہ
لیجے کی صورت میں یا اطلاع دیا نہ ہونے کی صورت میں ترجمہ دای آپ پر عائد
ہوگی۔ نیز اگر کوئی زمیندار یہ کہتا ہے کہ وہ موقع پر حاضر نہ ہوگا تو اسکا
مجاہد بیان قلمبند کرتے مع دستخط و انگلیوں کے سند اپنے پاس رکھیں۔

مندرار



No 255

2017/06/07

Dated: 02/06/17

شرفی خان ٹیواری کو بڑی زمین کے بارے میں پورے بار بار کالے
بڑی زمین کے بارے میں پورے بار بار کالے
بڑی زمین کے بارے میں پورے بار بار کالے
بڑی زمین کے بارے میں پورے بار بار کالے
بڑی زمین کے بارے میں پورے بار بار کالے

2017-06-06

جناب ڈپٹی ملٹر صاحب اریٹیشن ڈویژن ایسٹ آباد

پٹواری مارمن کا جواب اور اس پر ممتاز ۱/۱۰ کا بیان سمجھنے پر 1 اور 2 پر درج ہے۔ مذکورہ پٹواری کو تحریری صداقت عمار کی گئی کہ موضع پبلیا لم کے زمیندارن کو تحریری اطلاع برائے تصدیق عارضی وار بندی کرے لیکن پٹواری مذکور نے حکم ادولی کی اور دفتر میں آکر پر جانہ و معمول کرنا گوارا نہ کیا۔ حالانکہ بار یا ممتاز ۱/۱۰ نے میڈلر موہائل سے اطلاع کی۔ جس پر پٹواری مذکور نے والد صاحب موہائل پر ممتاز ۱/۱۰ کو کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو تنگ نہ کریں اسکا رٹا سفر ہوگئی ہے حالانکہ اس موضع کے عقلی کا خدات اس نے داخل کروانا میں اور چارج میں رہی ہیں چھوڑا۔

تصدیق وار بندی سے قابل کاشت و قبہ کی تشخیص بھی ہو جائی تھی کیونکہ موضع کا باقاعدہ ریکارڈ تھا۔ پاس نہ ہے لیکن پٹواری مذکور نے حکم ادولی کی۔ اس سے ہے بھی موضع پر آپ جناب اور 500 روپے کے معرکہ برائے تصدیق و قبہ حات کیلئے گئے تھے لیکن مناسب اطلاع ہی نہ ہوئے کیونکہ تصدیق نہ ہو سکی۔ پٹواری کو اس موضع پر کم تشخیص کیونکہ سے سزا میں ہوئی لیکن پٹواری کا رویہ تبدیل نہ ہوا۔ پٹواری حکم ادولی کیا جو سب محو استہائی نامناسب الفاظ میں تحریری جواب دیتا ہے۔ اگر ایسا ہی رہتا تو سرکاری حکام جلدانا ٹالھن ہو جائے گا۔

لہذا آپ کی خدمت میں رہن کیا جاتا ہے کہ اس بارے میں حضرت جاری فرمائی جائے تاکہ رقبہ اندراج درست کیا جاسکے اور پٹواری کے اس رویہ پر تادیبی کارروائی کی جائے کیونکہ پٹواری نے حکم ادولی کیا جو سب محو قبہ کا داعن بھی پانچو سے چھوڑ دیا۔




Mo 267
3

Dated: 07/06/17



Government of Khyber Pakhtunkhwa
District Accounts Office Abbotabad
Monthly Salary Statement (February-2018)



Personal Information of Mr HAROON YOUNIS d/w/s of YOUNIS KHAN

Personnel Number: 00701793 CNIC: 1330203649547 NTN:
 Date of Birth: 05.04.1984 Entry into Govt. Service: 08.05.2013 Length of Service: 04 Years 09 Months 022 Days

Employment Category: Active Temporary

Designation: PATWARI 80000297-GOVERNMENT OF KHYBER PAKH
 DDO Code: AD4305-

Payroll Section: 002 GPF Section: 001 Cash Center:
 GPF A/C No: Interest Applied: Yes **GPF Balance: 41,206.00**

Vendor Number: -
Pay and Allowances: Pay scale: BPS For - 2017 Pay Scale Type: Civil BPS: 01 Pay Stage: 8

Wage type		Amount	Wage type		Amount
0001	Basic Pay	11,450.00	1000	House Rent Allowance	891.00
1210	Convey Allowance 2005	1,785.00	1300	Medical Allowance	1,500.00
2148	15% Adhoc Relief All-2013	296.00	2199	Adhoc Relief Allow @10%	218.00
2211	Adhoc Relief All 2016 10%	1,075.00	2224	Adhoc Relief All 2017 10%	1,145.00

Deductions - General

Wage type		Amount	Wage type		Amount
3001	GPF Subscription - Rs 400	-400.00	3501	Benevolent Fund	-300.00
4004	R. Benefits & Death Comp:	-451.00			0.00

Deductions - Loans and Advances

Loan	Description	Principal amount	Deduction	Balance

Deductions - Income Tax

Payable: 0.00 Recovered till February-2018: 0.00 Exempted: 0.00 Recoverable: 0.00

Gross Pay (Rs.): 18,360.00 Deductions: (Rs.): -1,151.00 Net Pay: (Rs.): 17,209.00

Payee Name: HAROON YOUNIS

Account Number: 16688-5

Bank Details: NATIONAL BANK OF PAKISTAN, 230301 MAIN BRANCH, ABBOTABAD. MAIN BRANCH, ABBOTABAD., ABBOTABAD

Leaves: Opening Balance: Aailed: Earned: Balance:

Permanent Address: MOLLAH RAWAILWAY STATION HARIPUR

City: AD Domicile: NW - Khyber Pakhtunkhwa

Housing Status: No Official

Temp. Address:

City: Email:

(13/06.03.2018/10:32:01) 2) All amounts are in Pak Rupees 3) Errors & omissions excepted

چارج شیٹ

چارج شیٹ برصغیر ہارون خان پٹواری ضلع شمال ڈیمینسٹریٹو ہری پور

اپنے صدف الزام ہے۔ کہ اپنے صدف بارہ ڈیم کے تحت اراضیات
اپناش شدہ کو درج خسرہ نہیں کیا ہے۔ جس کے بارے میں جناب

مگسٹر صاحب پشاور نے موقع پر رقبہ اپناش شدہ کی نشاندہی کی۔

جو کہ ۱۵-۸۹۱ برآمد ہوا۔ رقبہ مذکورہ کو اپنے قصداً عمداً چھوڑا ہے

جبکہ اپنے زمینداران متعلقہ سے اس کا آبیانہ وصول بھی کیا ہے۔ بلکہ

شرح خسرہ سے کہیں زیادہ وصول کیا ہے۔ اور رقم مذکورہ کو داخل فرما

نہیں کیا ہے۔ مگسٹر صاحب پشاور کے رپورٹ پر جناب چیف انجینئر

پشاور نے اپنے صدف انگریزوں کے احکامات صادر کیے۔ جو کہ آپ

کے صدف باقاعدہ ثابت ہیں۔ اس بارے میں وضاحت شامل کر

کہ کون نہ اپنے صدف ہی۔ اینڈ ڈی رولز ۱۱۱۱ کے تحت کارروا

محل میں لائی جائے۔

EXECUTIVE ENGINEER
HAZARA IRRIGATION DIVISION
ABBOTTABAD.


18/04/17

No 18

1

شوکار نوٹس بنام ہادیوں جان کینال ٹوری حلقہ شمال ڈیمنز سیکشن ٹری اور ہزارہ

سرگرم۔ کہ آپ عرصہ دو سال سے خیر بارہ ڈیم تکمیل بخاری پر کثرت کینا
ٹوری کینات میں۔ فصل وسیع 2013-14 میں خیر بارہ ڈیم کی آبپاشی تعداد
86 ایکڑ تشخیص کی گئی تھی۔ جبکہ اپنے رقبہ مزورہ کو ہرف کا ایکڑ پرے آیا
کلیئر کیا۔ لیڈرے عبداللہ ورہ خیر بارہ ڈیم میں آبپاش شدہ رقبہ تعداد
10-891 برآمد کیا۔ جو کہ اپنے قصداً محداً درج ضررہ نہیں کیا تھا۔ اور زمینداران
عدم سے ابیان شرح ضررہ سے کہیں زیادہ وصول کر کے داخل خزانہ نہیں
بعد ازاں آپ کے قصور صیف الجنتیہ نے ایشاد نے انٹواری کا حکم دیکر یہی
الزامات باقاعدہ ثبوت کے ساتھ ثابت بھی ہوئے۔
لہذا آپ بروئے انٹواری رپورٹ اخفاء رقبہ آبپاش شدہ کے مرتکب ہائے
اسی ضمن میں وضاحت شامل کریں کہ یہ وہ نام آپ کے قصور قانون کے مطابق
کا ادائیگی محل میں لائی جائے جس میں آپ کی ٹوری سے برخاستگی بھی شامل


15/4/17
No 17

KHYBER PAKHTUNKWA SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR

No. 1395 /ST

Dated 16 - 8 - / 2019

To


The Executive Engineer,
Hazara Irrigation Division,
Abbottabad.

Subject: -

JUDGEMENT IN APPEAL NO. 1172/2017, HAROON KHAN VS. GOVT.

I am directed to forward herewith a certified copy of Judgement dated 08.07.2019 passed by this Tribunal on the above subject for strict compliance.

Encl: As above


REGISTRAR,
KHYBER PAKHTUNKHWA
SERVICE TRIBUNAL
PESHAWAR.

was contended that the appeal has no force and prayed for dismissal of appeal.

6. Perusal of the record reveals that the appellant was imposed major penalty of termination from service vide order dated 23.12.2016 ~~but neither~~

~~any absence notice is on the record nor any charge sheet, statement of allegation, inquiry report and final show-cause notice is available on the~~

~~record.~~ Meaning thereby that the appellant was imposed major penalty of

termination from service without codal formality therefore, the appellant was

condemned unheard. As such, we partially accept the appeal, set-aside the

impugned order, and direct the respondent-department to conduct regular

inquiry in the mode and manner prescribed under the Khyber Pakhtunkhwa

Government Servants (Efficiency & Disciplinary) Rules, 2011. However, the

reinstatement of the appellant and issue of back benefits will be subject to the

outcome of de-novo inquiry. Parties are left to bear their own costs. File be

consigned to the record room.

ANNOUNCED

11.04.2019

M
(MUHAMMAD AMIN KHAN KUNDI)
MEMBER

(MUHAMMAD HAMID MUGHAL)
MEMBER

*but within any absence notice was
issued at her home address.
No charge sheet, statement
of allegation was served. No
proper inquiry was conducted
No any official show cause notice
was served.*